

13648 - قرآنی آیات پر مشتمل اسٹکر وغیرہ فروخت کرنے

سوال

منافع کمانے کے لیے قرآنی آیات کو سٹکروں اور کتب وغیرہ کے ٹائٹل پر لگانے کا حکم کیا ہے؟
یہ منافع حاصل کرنے والے منافع کو پروگرام / تنظیمات / مدارس / اور اسلامی تنظیموں کے تعاون میں دیتے ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

حصول علم کی حرص اور دعوت الی اللہ کے متعلقہ امور کا سوال کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ بعض اوقات شرعی علم کے بغیر دی دعوت و تبلیغ اصلاح سے زیادہ فساد کا باعث بن سکتی ہے۔

ان سٹکروں وغیرہ کو فروخت کرنے کے متعلق حکم تو اس وقت آپ کے سامنے واضح ہو گا جب آپ اس طرح کی اشیاء لٹکانے کا حکم معلوم کر لیں گی، بلاشبہ قرآنی آیات پر مشتمل تختیاں اور کپڑے وغیرہ گھروں، مدارس اور سکولوں یا پھر دوکانوں اور اکیڈمی وغیرہ میں لٹکانے میں کئی ایک منکرات اور برائیاں اور شرعی ممانعت پائی جاتی ہیں:

1 - اکثر اور غالب طور پر نقش کردہ آیات اور رنگ برنگے نقشوں میں بنائے گئے انکار وغیرہ سے دیواروں کو مزین کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے انحراف ہے کیونکہ قرآن مجید تو ہدایت اور وعظ و نصیحت اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، نہ کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ اس سے دیواریں مزین کی جائیں، بلکہ اسے تو انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔

2 - بہت سے لوگ اسے تبرک حاصل کرنے کے لیے لٹکاتے ہیں، اور یہ بدعت ہے، کیونکہ مشروع تبرک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ کہ اسے لٹکانا اور اسے الماریوں میں اونچی جگہ رکھنا، اور اسے تختیاں اور مجسموں میں منتقل کرنا۔

3 - اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مخالفت ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور خیر وبھلائی تو ان کی اتباع و پیروی میں ہے نہ کہ بدعات ایجاد کرنے میں، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اندلس اور ترکی وغیرہ میں اس طرح کی تختیاں اور تزیین اور مساجد اور گھروں میں آیات کی نقش و نگاری مسلمانوں کے کمزور اور ضعف والے دور میں شروع ہوئی۔

4 - اس کو لٹکانا شرك کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس طرح کی تختیاں اور

لٹکانے والی اشیاء گھر اور اس میں رہنے والوں کو ہر قسم کے شر اور آفات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ اعتقاد شرکیہ اور حرام ہے، کیونکہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی حفاظت کے اسباب میں خشوع و خضوع اور یقین کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور شرعی دعائیں پڑھنا ہیں۔

5 - اس پر لکھنا تجارت کی ترویج اور زیادہ آمدن کے لیے قرآن مجید کو وسیلہ بنانا، ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح کی غرض سے پاک رکھا جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تختیاں وغیرہ خریدنے میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے۔

6 - ایسی بہت سی تختیوں پر سونے کا پانی پھیرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے استعمال اور لٹکانے کی حرمت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔

7 - اس قسم کی بعض تختیوں میں واضح طور پر عبث کام ہوتا ہے مثلاً لپٹی ہوئی کتابت جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ عبارت پڑھی ہی نہیں جاتی، اور بعض میں تو کسی پرندے کی شکل میں یا پھر کسی سجدے میں پڑے ہوئے شخص کی شکل میں کتابت کی گئی ہوتی ہے، اور یہ ذی روح کی تصویر ہے جو حرام ہے۔

8 - اس میں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی اہانت و اذیت کا پہلو نکلتا ہے، مثلاً ایک گھر سے دوسرے گھر میں سامان منتقل کرتے وقت مختلف قسم کے گھریلو سامان میں دوسری اشیاء کی طرح ہی اوپر نیچے رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بعض اشیاء رکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح گھر کی دیواروں اور چھتوں کو رنگ کرتے وقت بھی اتارتے وقت یہی عمل ہوتا ہے، اس پر مستزاد یہ کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ معلق ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی حرمت اور اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔

9 - اور بعض گنہگار قسم کے لوگ اسے اس لیے معلق کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ وہ دینی امور پر کاربند ہیں تا کہ اپنے ضمیر کی ملامت میں کمی کرسکیں، حالانکہ یہ چیز انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی۔

مختصر یہ کہ شر اور برائی کا دروازہ بند کر کے قرون اولیٰ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اس دور کے لوگ خیر و صلاح اور مسلمانوں میں سے اپنے دینی احکام اور عقائد کے اعتبار سے سب سے افضل ہونگے ان لوگوں کے طریقہ پر چلنا ضروری ہے۔

پھر اگر کوئی کہنے والا شخص یہ کہے کہ:

ہمیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہم اسے زینت و زیبائش بناتے ہیں، اور نہ ہی اس میں غلو کرتے ہیں، بلکہ ہم تو مجلسوں میں لوگوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

جب ہم فی الواقع دیکھتے ہیں تو کیا واقعتاً ہم ایسا ہی پاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا پھر جب وہ اس کی جانب سر اٹھاتے ہیں تو معلق شدہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں؟

واقعہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ وہ تو اس کے خلاف ہے، لہذا کتنے ہی وہاں بیٹھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے سروں پر یہ اشیاء معلق ہوتی ہیں اور وہ جھوٹ بولتے اور کذب بیانی اور غیبت و چغلی میں لگے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے اور برائی کرتے اور برے اقوال کہتے ہیں، اور اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالفعل اس سے مستفید ہوتے ہوں گے، لیکن وہ بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں، جو اس مسئلہ کے حکم میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے۔

لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف پلٹیں اور اس کی تلاوت کریں اور جو کچھ اس میں احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنائے۔ آمین

میں نے جو کلام آپ کے لیے ذکر کی ہے وہ عصر حاضر کے بڑے بڑے علماء کرام مثلاً فضیلۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اور مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عرب اور فضیلۃ الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ جات کا خلاصہ اور اجمال ہے، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں قائم مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے۔

دیکھیں فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء فتویٰ نمبر (2078) اور فتویٰ نمبر (17659)۔

اور اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی بنا پر یہ اسٹکرز وغیرہ فروخت نہ کریں، کیونکہ اسے فروخت کرنے کی بنا پر آپ بعض ممنوعات و محاذیر میں پڑ جائیں گے جنہیں علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کسی دوسرے کا اس ممنوعہ کام میں پڑنے کا سبب بھی بن جائیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے ہدایت اور سیدھی راہ طلب کرتے ہیں۔

واللہ اعلم .